



سوال

بھائی کو زکوٰۃ دینے کا حکم؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرا ایک بھائی ہے، جو مجھ سے بڑا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، اوبچے بھی ہیں۔ وہ پاکستان میں ہماری والدہ کے ساتھ رہتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے۔ اگر کرے بھی تو کچھ ماہ بعد کچھ ناکچھ ہونا ہے، یا وہ کچھ ناکچھ کر کے کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ مجھے باہر بھیجیں۔ اب جب وہ کام نہیں کرتا اس کے اور اس کی بیوی بچوں کے اخراجات مجھے اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ پوری فیملی میں صرف میں کمانے والا ہوں۔ والد دوسری شادی کر کے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ کیا اس کو میں اور میری بہن زکوٰۃ دے سکتے ہیں بتائے بغیر یا نہیں؟ میں بھی بیرون ملک ہوتا ہوں اور ہماری ایک بڑی بہن بھی اب دو بہنوں میں ایک کمپنی ویزہ آیا ہے جس پر میرا بھائی جانے کو راضی ہے اس پر لاگت تقریباً تین سے چار لاکھ ہے کیا اس ویزہ کی لاگت پر خرچ میں اور میری بہن زکوٰۃ میں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر آپ کا بھائی صاحب نصاب نہیں ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، جب اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے تو پھر ویزے سمیت کسی بھی طرح سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لئے فتویٰ نمبر (3524) پر کلک کریں۔

حدا ما عنہم والیٰ اللہ اعلم بالصواب

فتویٰ کمیٹی

محدث فتویٰ